

Table of Contents

Astaghfirullah	3
Alhamdulillah Rabbil Alamin	6
Allahumma Salle Ala Muhammdin wa Ale Muhammad	8
Alam Nashrah Laka Sadrak.....	10
Qul Huwa Allahu Ahad	13
La Ilaha IllAllahu Muhammad-ur-RasulAllah	16
Allahu, Allahu, Allahu.....	18
Allah Allah Nabi Ka Gharana, Yeh Gharana Wara-ul-Wara Hai.....	21
Ya Hayyu Ya Qayyum	24
Bismillahir Rahmanir Raheem (Hamd).....	26
Bismillahir Rahmanir Raheem	29
Inna Aataina Kal Kawthar.....	31
Koi Misal Na Dholan Di.....	33
Khuda Ka Zikr Karay	36
Koi Sleeka Hay Arzo Ka	38
Lijeo Muhammad Naam.....	40
Tu Shah e Khuban Tu Jan e Janan	42
Nabi Ka Zikr He Khuda Ka Zikr Hay	44
Koi Nabi Nahi Hay Mere Mustafa Ke Baad	46
Khabaray Tahayyuray Ishq Sun	48
Wo Kamale Husnay Hazoor Hey	50
Na Pochiye Kay Kia Hussain Hay	52
Qamarun.....	55
Allahumma Salli Ala Muhammad wa Ala Ale Muhammad wa Sallim	56





Astaghfirullah

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

٢ X (أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ - أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ - أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ)

٢ X (أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ)

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ - أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ

٤ X (أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ)

(Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah) x2

(Astaghfirullah-hal-Azeem wa Atoobu Eleyh) x2

Astaghfirullah, Astaghfirullah

(Astaghfirullah) x4

I ask Allah (AJ) for forgiveness. I ask forgiveness from Allah (AJ)
the Magnificent and repent to him.

٢ X (مجھے معلوم ہے مجرم ہوں میں اور تو میرا حاکم)

٢ X (جبھی تو آج میری آنکھ میں عشکوں کی ہے رم جہم)

(کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے

میرے مولا درتوبہ تو اس پر کھول دیتا ہے) ٢ X

(Mujhe Maloom Hai Mujrim Hon Mei, Aur Tu Mera Haakim) x2

(Jabhi Tho Aaj Meri Aankh Mei Ashkon Ki Hai Rim Jhim) x2

(Koi Banda Tere Dar Per Jo Aanso Rol Deta Hai,

Merey Maula Dar Tauba Tu Os Per Khol Deta Hai) x2

I know that I am a sinner and You are my judge,
That is why my eyes contain showers of teardrops
Any person that sheds tears on Your doorstep,
My Master, You open the door of repentance for them.

CHORUS



عِبَادَ اللَّهِ رَجَالَ اللَّهِ (أَغِيثُونَا بِأَهْلِ اللَّهِ) ۲ X
 وَكُونُوا عَوْنَنَا فِي اللَّهِ عَسَى نَحْظِي بِفَضْلِ اللَّهِ) ۲ X
 وَيَا أَقْطَابُ وَيَا أَنْجَابُ وَيَا سَادَاتُ وَيَا أَحْبَابُ
 وَأَنْتُمْ يَا أَلَى الْأَنْبَابِ تَعَالَوْا وَانصُرُوا اللَّهَ) ۲ X

(‘Ibadallah Rijal Allah, Agheethuna bi ahlillah) x2
 (Wa kunu ‘aunana fillah, ‘Asa nahzha bi fadlilla) x2
 (Wa ya aqTab, wa ya anjab, Wa ya sadat, Wa ya ahbab
 Wa antum ya uleel albab, Ta’alau wan suru lillah) x2

○ Allah's (AJ) servants, ○ men of Allah (AJ), Bring us relief by the People of Allah (AJ)
 And help us for the sake of Allah (AJ) so we may get the favours of Allah (AJ).
 ○ Pillars of religion, ○ generous men, ○ Masters, ○ lovers of Prophet Muhammad (pbuh),
 You are the heavenly gatekeepers, Come to our rescue and make us victorious.

CHORUS

سَأَأْتِيكُمْ سَاءَ نَأْتِكُمْ (وَاللَّزْنَفَ رَجَوْنَكُمْ) ۲ X
 وَفِي أَمْرٍ قَصْدٌ نَأْتِكُمْ فَشُدُّوا أَمْرَكُمْ لِلَّهِ) ۲ X
 (فَيَا رَبِّي بِسَادَاتِ تَحَقَّقْ لِي إِشَارَاتِ
 عَسَى تَأْتِي بِشَارَةٍ وَيَصْفُوا أَمْرَنَا لِلَّهِ) ۲ X

(Sa alnakum, sa alnakum, Wa lizzulfa rajau nakum) x2
 (Wa fee amrin qasad nakum, Fa shuddu amrakum lillah) x2
 (Faya rabbi, bi sadatee, Tahaqqaq li isharatee
 ‘Asa ta’tee bi sharatee, Wa yasfu amruna lillah) x2

We ask from you, we entreat you, We set our hearts on your companionship,
 And for important matters we call on you;
 So we come with humility to answer the command of Allah (AJ)
 ○ Lord, by these Masters, Your signs have been confirmed, We are hoping to witness glad
 tidings, And that they guide us, cleanse us, and keep us firm on our path.

CHORUS



(بِكَشْفِ الْحُجْبِ عَنْ عَيْنٍ وَرَفْعِ الْبَيْنِ مِنْ بَيْنِ) ۲x
(وَ صَرَفِ الْقَلْبِ وَالْعَيْنِ بِنُورِ الْوَجْهِ يَا اللَّهُ) ۲x
(صَلَاةَ اللَّهِ مَوْلَانَا عَلَى مَنْ بِالْهُدَى جَنَّا
وَمَنْ بِالْحَقِّ أَوْلَانَا شَفِيعَ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ) ۲x

(Bi kashfil hujbi 'an 'ainee, Wa raf'il baini min baine) x2
(Wa sarfil qalbi wal 'ainee, BiNuril wajhi ya Allah) x2
(Salatullahi Mawlana, 'Ala man bil Huda jana
Wa man bil haqqi aulana, Shafi'il khalqi 'indallah) x2

Lift the veils covering my sight, And remove anything that is blocking me from You, grant me
the abode of your presence, which is the desire of my heart and eyes,
By the light of the holy face of Prophet (pbuh, O Allah (AJ).
May the blessings of our Lord, Allah (AJ), be upon Prophet Muhammad (pbuh), who guided us
to the right path; He who entrusted us with his religion of truth, He is the Intercessor for all
human beings in front of Allah (AJ).

CHORUS



Alhamdulillah Rabbil Alamin

الْعَالَمِينَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ
(الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ)

Alhamdu lillaahi Rabbil 'aalameen, Ar-Rahmaanir-Raheem,
Maaliki Yawmid-Deen Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'een,
Ihdinas-Siraatal-Mustaqeem,

Siraatal-lazeena an'amta 'alaihim ghayril-maghdoobi 'alaihim wa lad-daaalleen
(Alhamdu lillaahi Rabbil 'aalameen, Ar-Rahmaanir-Raheem, Maaliki Yawmid-Deen)

(All) praise is [due] to Allah (AJ), Lord of the worlds, the Entirely Merciful, the Especially Merciful, Sovereign of the Day of Recompense. It is You we worship and You we ask for help. Guide us to the straight path – the path of those upon whom You have bestowed favour, not of those who have evoked [Your] anger or of those who are astray (Qur'an, Verse 1).

(کبھی اے حقیقت منتظر نظراً لباس مجاز میں) ۲x
(کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے) ۲x، بین مری جبین نیاز میں

(Kabhi Ae Haqiqat-e-Muntazar, Nazar Aa Libas-e-Majaz Mein) x2
(Ke Hazar Sajde Tarap Rahe) x2, Hain Meri Jabeen-e-Niaz Mein

For once, O awaited Reality, reveal Yourself in a material form,
For a thousand prostrations are quivering eagerly in my submissive brow.

CHORUS



(تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، ترا آنہ ہے وہ آنہ) ۲X
(کہ شکستہ ہو تو عزیز تر) ۲X، بے نگاہ آنہ ساز میں

(Tu Bacha Bacha Ke Na Rakh Isse, Tera Aaeena Hai Who Aaeena) x2
(Ke Shikasta Ho To Aziz Tar) x2, Hai Nigah-e-Aaeena Saaz Mein

Do not try to protect it, your mirror is the mirror
Which would be dearer in the Maker's eye if it's broken.

CHORUS

(نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی) ۲X
(مرے جرم خانہ خراب کو) ۲X، ترے عفو بندہ نواز میں

(Na Kaheen Jahan Mein Aman Mili, Jo Aman Mili To Kahan Mili) x2
(Mere Jurm-e-Khana Kharab Ko) x2, Tere Ufuf-e-Banda Nawaz Mein

My dark misdeeds found no refuge in the wide world -
The only refuge they found was in Your Gracious Forgiveness.

CHORUS

(نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں) ۲X
(نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی) ۲X، نہ وہ خم بے زلف ایاز میں

(Na Who Ishq Mein Raheen Garmiyaan, Na Who Husn Mein Raheen Shaukiyan) x2
(Na Who Ghaznavi Mein Tarap Rahi) x2, Na Who Kham Hai Zulf-e-Ayaz Mein

Neither love has that warmth, nor beauty has that charm left,
Neither that restlessness in Ghaznavi nor those curls in the hair locks of Ayaz are left.

CHORUS

(جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا) ۲X
(ترا دل تو ہے صنم آشنا) ۲X، تجھے کیا ملے گا نماز میں

(Jo Mein Sar Basajda Huwa Kabhi To Zameen Se Ane Lagi Sada) x2
(Tera Dil To Hai Sanam Ashna) x2, Tujhe Kya Mile Ga Namaz Mein

Even as I laid down my head in prostration, a cry arose from the ground;
Your heart is in materialism, there is no reward for your prayers.

CHORUS x2



Allahumma Salle Ala Muhammdin wa Ale Muhammad

الهم صل على محمد وآل محمد

(Poet: Allama Iqbal, R.A.)

(الهم صل على محمد وآل محمد) x4

Allahumma Salle Ala Muhammdin wa Ale Muhammad (x4)

○ Allah, send blessings upon Muhammad (pbuh)
and the family of Muhammad (pbuh)

لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود کتاب
گنبدِ آبگینہ رنگ، تیرے محیط میں حباب

**Loh Bhi Tu Qalam Bhi Tu, Tera Wajood Al-Kitab
Gunbad-e-Abgina Rang Tere Muheet Mein Habab**

You are the Sacred Tablet, You are the Pen and the Book,
This blue-colored dome (sky) is but a bubble in your sea.

عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ
ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوعِ آفتاب

**Alim-e-Aab-o-Khak Mein Tere Zahoor Se Faroug
Zarra'ay Raig Ko Diya Tu Ne Tulu-e-Aftab**

You are the lifeblood of the universe,
You bestowed the illumination of a sun upon the particles of desert dust.

CHORUS

شوکتِ سنجر و سلیم، تیرے جلال کی نمود
فقرِ جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب

**Shoukat-e-Sanjar-o-Saleem, Tere Jalal Ki Namood
Faqr-e-Junaid (ra)-o-Bayazeed (ra), Tera Jamal Be-Naqab**

The Majesty of Sanjar and Selim, a mere hint of your Power;
The faqr of Junaid (ra) and Bayazid (ra), your beauty unveiled.



شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام
میرا قیام بھی حجاب، میرا سجدہ بھی حجاب

**Shauq Tera Agar Na Ho Meri Namaz Ka Imam
Mera Qiyam Bhi Hijab, Mera Sajood Bhi Hijab**

If my prayers are not led by my passion for you,
My ovation as well as my prostrations would be nothing but veils upon my soul.

CHORUS

(تیری نگاہِ ناز سے دونوں مُراد پا گئے) x ۲
عقل غیبِ جُستجو، عشق حضور و اضطراب

**(Teri Nigah-e-Naaz Se Dono Murad Pa Gaye) x2
Aqal Ghiyab-o-Justajoo, Ishq Huzoor-o-Iztarab**

A meaningful glance from you redeemed both of them,
Reason—the seeker in separation; and Love—the restless one in Presence.

CHORUS



Alam Nashrah Laka Sadrak

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ
الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ
وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

(أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ
وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ)

Alam Nashrah Laka Sadrak, Wa Wa Da'na Anka Wizrak
Allazi Ankada Zahrak, Wara F'ana Laka Zikrak
Fa Inna ma Al Usri Yusrun, Inna ma Al Usri Yusrun
Fa Iza Farugta Fansub, Wa Ila Rabbika Fargub

(Alam Nashrah Laka Sadrak, Wa Wa Da'na Anka Wizrak
Allazi Ankada Zahrak, Wara F'ana Laka Zikrak)

Have We not broadened your breast for you
(for the light of knowledge, wisdom and spiritual gnosis)?
And We have taken off the load (of grief of the Umma [Community]) from you.
(The load) which was growing heavier on your (holy) back.
And We exalted for you your remembrance (by annexing it to
Ours everywhere in the world and in the Hereafter).
So surely ease (comes) with every hardship.
Verily, with (this) hardship (too) there is ease.
So when you are free (from educating the Umma (Community),
preaching the Deen (Religion) and fighting, and fulfilling your (responsibilities),
then strive hard (in remembrance and the worship of your Lord),
And turn to your Lord earnestly. (Qur'an, Verse 94)



۲X (نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا)
ساتھ ہی منشیئ رحمت کا قلمدان گیا

(Ne'amatein baant ta jis simt woh zeeshaan gaya) x2
Saath hi munshiaey rehmat ka qalam daan gaya

Wherever the Glorious one went, he Shared blessings
with him, was the pen (Qalam) of the mercy.

CHORUS

۲X (لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا)
میرے مولیٰ میرے آقا تیرے قربان گیا

(Le khabar jald ke ghairon ki taraf dhiyaan gaya) x2
Mere Maula mere Aqa tere qurbaan gaya

Take notice of me quickly so my focus should not be on others
For my lord, For My master I can give up my life.

CHORUS

۲X (دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا)
سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا

(Dil hai woh dil jo teri yaad say ma'moor raha) x2
Sar hai woh sar jo tere Qadmon pe qurbaan gaya

The real heart is the one that is filled with your remembrance
The real head is the one that fell on your feet.

CHORUS

۲X (انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام)
لہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا

(Unhein jana unhein mana na rakhha ghair se kaam) x2
Lillah Al Hamd main duniya se Musalmaan gaya

I only know about him, I only accept him, I have nothing to do with others
Thank God, I went as a Muslim from this world.

CHORUS



(آج لے اُن کی پناہ آج مدد مانگ اُن سے) ۲x
پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا

(Aaj le unki Panah aaj madad maang unse) x2
Phir na maanege Qayamat mein agar maan gaya

Take His refuge today, take help from him today
You won't find any acceptance, if you finally agree on this in Qayamah.

CHORUS

(جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے) ۲x
تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا

(Jaan o dil hosh wa khirad sab to Madinay pahonche) x2
Tum nahi chalte Raza sara to samaan gaya

My heart and soul, mind and senses all have reached Madina
Why don't you go too, Raza! Everything else has gone.

CHORUS



Qul Huwa Allahu Ahad

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
اللَّهُ الصَّمَدُ
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ
(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ) ۲x

**Qul huwa Allahu ahad
Allah hu samad
Lam yalid wa lam yulad
(Wa lam yakul-lahu kufuwan ahad) x2**

In the name of God, Most Gracious, Most Merciful
Say: He is Allah, the One and Only!
Allah, the Eternal, Absolute;
He begetteth not, nor is He begotten.
And there is none like unto Him (Qur'an, Verse 112).

(یا رب! دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا دے) ۲x
(جو قلب کو گرما دے، جو رُوح کو تڑپا دے) ۲x
(پھر وادیِ فاران کے ہر ذرے کو چمکا دے) ۲x
(پھر شوقِ تماشا دے، پھر ذوقِ تقاضا دے) ۲x

**(Ya Rab! Dile Muslim Ko Woh Zinda Tamanna De) x2
(Jo Qalb Ko Garma De Jo Roh Ko Tadpa De) x2
(Pher Wadi-E-Faraan Ke Har Zarre Ko Chamka De) x2
(Pher Shoq-E-Tamasha De, Pher Zouq-E-Taqaza De) x2**

Lord! Fill the Muslim's heart with a desire so fervent,
That it will set his heart aflame and stir his soul.
Light up again every speck of dust in the Valley of Faran,
Make us long again for beautiful sights and create in us the urge to make demands.

CHORUS



(محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے) ۲X
(دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے) ۲X
(بھٹکے ہوئے اَبُو کو پھر سُوئے حرم لے چل) ۲X
(اس شہر کے خُوگر کو پھر وسعتِ صحرا دے) ۲X

(Mehrom-E-Tamasha Ko Pher Dida-E-Bina De) x2
(Dekha Hai Jo Kuch Maine Auron Ko Bhi Dikhla De) x2
(Bhatke Howe Aahon Ko Pher Soe Haram Le Chal) x2
(Es Shehar Ke Kho-Gar Ko Pher Was-At-E-Sehra De) x2

Give piercing vision to those deprived of sight,
and show to others what I have seen.
Lead the stray gazelle back to the Sanctuary,
It has grown used to the city – Give it back the vastness of the desert.

CHORUS

(پیدا دلِ ویراں میں پھر شورشِ محشر کر) ۲X
(اس محملِ خالی کو پھر شاہدِ لیلا دے) ۲X
(اس دور کی ظلمت میں ہر قلبِ پریشاں کو) ۲X
(وہ داغِ محبت دے جو چاند کو شرما دے) ۲X

(Peda Dil-E-Viraan Mein Pher Shorish-E-Mehshar Kar) x2
(Es Mehmil-E-Khali Ko Pher Shahid-E-Lela De) x2
(Es Dour Ki Zulmat Mein Har Qalb-E-Pareshan Ko) x2
(Woh Dagh-E-Mohabbat De Jo Chand Ko Sharma De) x2

Stir up again the ruins of the heart with a commotion like Judgment Day.
Let this empty litter once again seat a sweetheart – a Layla!
In the darkness of this age give to every troubled heart
Scars of love that would shy the moon.

CHORUS



۲X (رفعت میں مقاصد کو ہمدوشِ ثریا کر)
۲X (خودداریِ ساحل دے، آزادیِ دریا دے)
۲X (بے لوثِ محبت ہو، بے باکِ صداقت ہو)
۲X (سینوں میں اُجالا کر، دلِ صورتِ مینا دے)

(Raffat Mein Maqasid Ko Hum-Dosh-e-Suraiya Kar) x2
(Khud-Dari-E-Sahil De, Azadi-E-Darya De) x2
(Be-Lous Mohabbat Ho, Be-Bak Sadaqat Ho) x2
(Sinoon Mein Ujala Kar, Dil Surat-E-Mina De) x2

Let the goals be as high as the Pleiades.
Give us the calm and poise of the shore, but the freedom of the sea.
Let love be selfless and truth fearless;
Let our breasts be flooded with light. Make our hearts clear as crystal.

CHORUS

۲X (احساسِ عنایت کر، آثارِ مصیبت کا)
۲X (امروز کی شورش میں اندیشہِ فردا دے)
۲X (میں بلبُلِ نالاں ہوں، اک اُجڑے گلستاں کا)
۲X (تاثیر کا سائل ہوں، محتاج کو، داتا دے)

(Ahsas Enayat Kar, Aasar-E-Musibat Ka) x2
(Amroz Ki Shorish Mein Andesha-E-Farda De) x2
(Main Bulbul-E-Nala Hon Ek Ujdre Gulistan Ka) x2
(Taseer Ka Sahel Hon, Mohtaj Ko Data De) x2

Enable us to foresee the calamity that is coming;
In the midst of today's upheaval, give us a vision of tomorrow.
I am a nightingale making my lament, I am from a garden which has been ravaged.
I wish that my prayer would have effect – Give to a beggar, bounteous Lord!

CHORUS



La ilaha illAllahu Muhammad-ur-RasulAllah

لا اله الا الله محمد رسول الله

٢ X (لا اله الا الله محمد رسول الله ، عليه صلوة الله ، لا اله الا الله)

(La ilaha illAllah Muhammadun RasulAllah, Aleyhi Salatullah, La ilaha illAllah) x2

There is no God but Allah, and Muhammad (pbuh) is the Messenger of God.

٢ X (و احسن منك لم تر قط عين واجمل منك لم تلد النساء)

(Wa Ahsun Minka Lam tara Kattu Aieni Wa Ajmalu Minka Lam Talidun Nisa) x2

My eyes have not seen a person better than you,
No woman gave birth to a person more beautiful than you.

٢ X (لا اله الا الله محمد حبيب الله عليه صلوة الله لا اله الا الله)

(La ilaha illAllah Muhammadun HabibAllah, Aleyhi Salatullah, La ilaha illAllah) x2

There is no God but Allah, and Muhammad (pbuh) is the Beloved of God,
Blessing be upon him, there is no God but Allah.

٢ X (خَلَقْتَ مُبْرَأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ)

(Khaluqta Mubarraun min Kulli Aiebin, ka'anaka Qud khuliqta kama tashauu) x2

You were created flawless, without the slightest blemish,
It seems you were created according to your wish!

٢ X (لا اله الا الله محمد نبي الله عليه صلوة الله لا اله الا الله)

(La ilaha illAllah Muhammadun NabiAllah, Aleyhi Salatullah, La ilaha illAllah) x2

There is no God but Allah, and Muhammad (pbuh) is the Messenger of God,
Blessing be upon him, there is no God but Allah.

٢ X (لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم)

(La Hawla Wala Quwwata illah Billahil Aliyil Azeem) x2

There is not might or power except from Allah, The Most High, The Most Great.



(لا اله الا الله محمد خليل الله عليه صلوة الله لا اله الا الله) ۲x

(La ilaha illAllah Muhammadun KhalilAllah, Aleyhi Salatullah, La ilaha illAllah) x2

There is no God but Allah, and Muhammad (pbuh) is the Intimate Friend of God,
Blessing be upon him, there is no God but Allah.

(حسبى ربي جل الله ، ما فى قلبى غير الله, نور محمد صل الله لا اله الا الله) ۲x

**(Husbi Rabbi Jal-Allah, Maafi Qalbi Gairu-Allah,
Noor Muhammad SallAllah La ilaha illAllah) x2**

Sufficient is for me my Rabb, Allah is great. There is none in my heart besides Allah.
The light of Muhammad (pbuh) is truth. There is none worthy of worship but Allah.

(لا اله الا الله محمد صفى الله عليه صلوة الله لا اله الا الله) ۲x

(La ilaha illAllah Muhammadun Safi-Allah, Aleyhi Salatullah, La ilaha illAllah) x2

There is no God but Allah, and Muhammad (pbuh) is the Pure One of God,
Blessing be upon him, there is no God but Allah.

(اج سىك متراں دى ودھيرى اے, كيون دلڑى اُداس گھنيرى اے،

لوں لوں وچہ شوق چنگرى اے،

اج نيناں لايان كيون جھڑيان) ۲x

**(Aj Sik Mitran di Wadheriye Aye, Kyun Dilri Udaas Ghaneriyey Aye,
Loon Loon Wich Showq Changeriye Aye,
Aj Neina Laiyan Kyun Jhariyan) x2**

Today you have met your beloved, why is your heart so sad,
If every vein is saturated with longing, why are your eyes shedding tears so heavily.

(لا اله الا الله محمد نجى الله عليه صلوة الله لا اله الا الله) ۲x

(La ilaha illAllah Muhammadun NajjAllah, Aleyhi Salatullah, La ilaha illAllah) x2

There is no God but Allah, and Muhammad (pbuh) is the Safety of God,
Blessing be upon him, there is no God but Allah.

(لا اله الا الله محمد شفيع الله عليه صلوة الله لا اله الا الله) ۲x

(La ilaha ill-Allah Muhammadun ShafiAllah, Aleyhi Salatullah, La ilaha illAllah) x2

There is no God but Allah, and Muhammad (pbuh) is the Intercessor to God,
Blessing be upon him, there is no God but Allah.



Allahu, Allahu, Allahu

اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ، اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

(اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ، اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ) x4

(Allahu Allahu Allahu, Allahu Allahu Allahu) x4

(یہ زمیں جب نہ تھی یہ زماں جب نہ تھا) ۲x

(چاند سورج نہ تھے آسماں جب نہ تھا) ۲x

(رازِ حق بھی کسی پر عیاں جب نہ تھا) ۲x

(تب نہ تھا کچھ یہاں) ۲x، تھا مگر تو ہی تو

(Ye zameen jub na thi ye zaman jub na tha) x2,

(Chaand suraj na thay aasman jub na tha) x2

(Razay huq bi kisi per ayan jub na tha) x2,

(Tub na tha kuch yahan) x2, Tha magar tu he tu

When this earth and world did not exist, When there was no moon, sun or sky,
When the secret of the truth was still unknown, There was none but only you.

CHORUS

(پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ) ۲x

(تب نہ معبود بندے میں پردا رہا) ۲x

(تب ملائک نے حضرت سے جُھک کر کہا) ۲x

(ساری مخلوق میں) ۲x، حق نما تو ہی تو

(Punhchay meraaj main arsh per Mustafa) x2,

(Tub na mabood banday mai parda raha) x2

(Tub malaik nay hazrat say jhuk kar kaha) x2,

(Sari makhlook man) x2, Haq numa tu he tu

Mustafa (pbuh) reached on Arsh on heavenly ascension,
where there was no veil between the Master and the Servant,
All the Angels bow with respect and said,
In all the creation you are the best to represent the Lord (Huq).

CHORUS



(کیوں پیا ابن حیدر نے جام فنا) ۲x ،
(کھال کھچوائی تیریز نے کیوں بھلا) ۲x
(دار پر چڑھ کے منصور نے یہ کہا) ۲x ،
(سب بناتے کھلونے) ۲x ، لے رہا تو ہی تو

(Kio pia ibnay Haider nay jamay fena) x2,
(Khaal khichwai Tabraiz nay kio bhala) x2
(Daar per char kay Mansoor nay ye kaha) x2,
(Sub banatay khilonay) x2, Lay raha tu he tu

Why the Son of Haider drank the Elixir of annihilation,
why Tabraiz has his skin peeled off,
Mansoor will say that before everyone,
that we are game for you, but He Values us.

CHORUS

(خالقِ کُل ہے تو اس میں کیا گفتگو) ۲x ،
(سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو) ۲x
(تیری جلوہ گری ہے عیاں چار سو) ۲x ،
(لا شریک لہ) ۲x ، مالکِ مُلک تو

(Khaliqay qul hay tu is mein kia guftgoo) x2,
(Saray aalum ko hey teri he justjoo) x2
(Teri jalwa gari hay Ayaan chaar soo) x2,
(La sharika lahoo) x2, Malikay mulk tu

No one else but you are the creator of everything, and everyone is sighing for you,
The whole world is searching only for you,
Even as your magnificence is in every corner, there is no partner with you, oh Lord of all worlds.

CHORUS



(لہ الہ تیری شان یا واحدہ) ۲X ،
(تو خیال و تجسس تو ہی آرزو) ۲X
(آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو) ۲X ،
(تھا بھی تو، بے بھی تو) ۲X ، ہو گا بھی تو ہی تو

(La ilaha teri shaan ya wahdahoo) x2,
(Tu khialo tajassus tu he arzoo) x2
(Aankh ki roshni dil ki awaz tu) x2,
(Tha bi tu, hai bi tu) x2, Ho ga bi tu he tu

Your Glory is that you are the One and only,
You are the curiosity, You are the desire for us,
You are the sight of eyes, the sound of heart,
You were, you are, and will be only you.

CHORUS



**Allah Allah Nabi Ka Gharana,
Yeh Gharana Wara-ul-Wara Hai**
اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الوری ہے

اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الوری ہے

Allah Allah Nabi ka gharana, Yeh gharana wara-ul-wara hai

O Allah, the Household of Prophet (pbuh), It's highest of the highest.

(اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الوری ہے) ۲x
(اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں) ۲x ، اس گھرانے میں مشکل کُشاء ہے

(Allah Allah Nabi ka gharana, Yeh gharana wara-ul-wara hai) x2
(Is mein Hasnain hain Fatima hein) x2, Is gharany mein Mushkil Kusha hai

O Allah (AJ), the Household of Prophet (pbuh), it's highest of the highest,
It has Hasnain (as), Fatima (sa), it has the Solver of all Difficulty (Ali (as)).

CHORUS

(لب پہ ہیں تزکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمن کے) ۲x
(ایسا ان کے کرم نے نوازا) ۲x ، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے

(Lab pe hein tazkiray Panjtaan ke, Phool mehkey hein mery chaman ke) x2
(Aisa Unke karam ne nawazah) x2, Apni kismat pe dil jhoomta hai

On the lips are the praises of Five holy personalities
(Sayyidina Muhammad (pbuh), Ali (as), Fatima (as), Hassan (as), Hussain (as)),
flowers of my garden are blooming,
Their blessing have given us so much, that we are overjoyed on our fate.

CHORUS

(اُمّتی ہوں میں شاہِ زمن کا، ہوں بھکاری میں آقا حسن کا) ۲x
(صدقے جاؤں میں ان کی عطا پر) ۲x ، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے

(Ummati hun mein Shah-e-Zaman ka, Hoon bheekhari mein Aaqa Hassan ka) x2
(Sadqay jaun mein Unke atfa par) x2, Denay walay ne sab kuch diya hai

I am Umati of king of the time, I am a begger to my Master Hassan (as),
May I give up everything for your Grant, the Merciful Giver has given me everything.

CHORUS



(نام پر تیرے سب کچھ ملا ہے، نام پر تیرے سب کچھ فدا ہے) ۲X
(نام پر تیرے قربان جاؤں) ۲X، ہم غریبوں کا تو آسرا ہے

(Naam per Tere sab kuch mila hai, Naam per Tere sab kuch fida hai) x2
(Naam per Tere qurbaan jaoun) x2, Hum ghreebon ka Tu asraa hai

I receive everything from your name, will give up everything on your name,
May I be sacrificed on your name, you are the only support for us the poor.

CHORUS

(خیر سے تم ہی خیر الوری ہو، اور تم ہی سید الانبیا ہو) ۲X
(کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہو گا) ۲X، تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے

Khair se Tum he Khair-ul-Wara ho, (Aur Tumhin Sayed-ul-Anbiyaa ho) x2
(Koi Tujh sa huwa hai na hoga) x2, Tere Raab ka yahi fayeselaa hai

You are the Best of all creation, And you are the master of all Prophets,
Nobody was and will be like you, this is the decision of my Lord.

CHORUS

(میرا بھی ہے کوئی دنیا والو، بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو) ۲X
(ساتھ میرے میرا پیشوا ہے) ۲X، میرا رب ہے میرا مصطفیٰ ہے

(Mera bhi hai koi dunya waalo, Bey-sahara mujhay tum na samjho) x2
(Saath mery mera Peshwaa hai) x2, Mera Raab hai mera Mustafaa hai

Oh people of dunia I also have someone, don't consider me without support,
I have with me my Guide, my Lord, my Mustafa (pbuh).

CHORUS

(لاج رکھ لو گدائے کرم کی، بھر دو بھر دو ہماری بھی جھولی) ۲X
(کوئی یہ نہ کہے کملی والے) ۲X، تیری محفل سے خالی گیا ہے

(Laaj rakh lo gad'dae karam ke, Bhardo bhardo hamari bhi jholi) x2
(Koi yeh na kahe Kamli Wale) x2, Teri mehfil se khali gaya hai

Save my prestige of this beggar of your blessings, fill up my bag,
That no one would say, that I went empty handed from your Association.

CHORUS



(کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں اُن کی عنایت پہ راضی) ۲x
(میری تربت پہ لکھنا نیازی) ۲x، پنجتن کا یہ ادنیٰ گدا ہے

(Kab'ba-e-Ishq ka hoon namazi, Mein hoon Unki inayaat pe raazi) x2
(Meri turbaat pe likhna Niazi) x2, Panjtaan ka yeh adna gad'daa hai

I am the worshipper of love (ishq), I am satisfied of what they have granted, Niazi on my grave please write that, "He was the lowest beggar of five holy personalities (Sayyidina Muhammad (pbuh), Ali (as), Fatima (as), Hassan (as), Hussain (as))."

اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الوریٰ ہے
(اس میں حسنین ہیں فاطمہ ہیں) ۲x، اس گھرانے میں مشکل کُشاء ہے

Allah Allah Nabi ka gharana, Yeh gharana wara-ul-wara hai
(Is mein Hasnain hain Fatima hein) x2, Is gharany mein Mushkil Kusha hai

O Allah (AJ), the Household of Prophet (pbuh), it's highest of the highest, It has Hasnain (as), Fatima (as), it has the Solver of all Difficulty (Ali (as)).



Ya Hayyu Ya Qayyum

يا حي يا قيوم

(يا حي يا قيوم) x 4

Ya Hayyu Ya Qayyum (x4)

O, The Ever-Living, The Ever-Lasting One

(يا رحيم يا رحمن، يا عدل يا منان) x 2،

(يا حفيظ يا ستار، يا واحد يا غفار) x 2

(يا مالك يا رزاق، تو خالق ہر خلاق) x 2،

ہر راز تجھے معلوم، ہر راز تجھے معلوم

(Ya Rahimu Ya Rahman, Ya 'Adilu Ya Mannan) x2,

(Ya Hafizu Ya Sattar, Ya Wahidu Ya Ghaffar) x2,

(Ya Maliku Ya Razzaq, Tu Khaliq-e-har khallaq) x2,

Har raz tujhe ma'lum, Har raz tujhe ma'lum

O the Most-Merciful, the Beneficent, O the Just One, O the Bestower (of blessings), O the Protecting One, the Concealing One, O the Only-One, the Forgiver
O the One who owns everything, who provides for everyone, You are the Creator of all creators, You know every secret.

CHORUS

(تو مثل ہے تو لاریب، تو پاک ہے تو بے عیب) x 2،

(تو زیست کا ہے عنوان، تو ساخر ہر عدوان) x 2

(تیری ذات ہے عزوجل، تو ہر مشکل کا حل) x 2،

ہر سمت ہے تیری دھوم، ہر سمت ہے تیری دھوم

(Tu mithl hai to la-raib, Tu pak hai to be-aib) x2,

(Tu zistka hai unwan, Tu sakhir-e-harudwan) x2,

(Teri zat hai azz-o-jal, Tu har mushkil kahal) x2,

Har samt hai teri dhum, Har samt hai teri dhum

You are the quintessence of certainty, You are pure and immaculate,
All life begins from You, You are the Subduer of all enemies,
Your being is eternal, You are the solution to every problem,
You are known all over.

CHORUS



(يا سلام يا مومن، يا علیم يا حکيم) ۲ X
(يا لطيف يا خبير، يا ولي يا الله) ۲ X
(الرحمن الرحيم، مالک يوم الدين) ۲ X
اياک نعبد و اياک نستعين

**(Ya Salamo Ya Mo'min, Ya Aleemo Ya Hakeem) x2,
(Ya Lateefo Ya Khabeer, Ya Waliyyo Ya Allah) x2,
(Arrahman-Irraheem, Maaleeki Youmiddeen) x2,
Iyyaka Na'boddu Wa Iyyaka Nastaeen**

○ The Perfect and Giver of Peace, ○ The Giver of Iman and Security, ○ The All-Knowing, Omniscient, ○ The One whose Wisdom is perfect and free from any error. ○ The One who is Most Knowledgeable of the most subtle details. ○ The One who is acquainted with everything, inner and outer, ○ The Protecting Friend, Patron, and Supporter. ○ Allah Entirely Merciful, The Bestower of Mercy, The King and Owner of the Day of Judgement, It is You we worship, and upon You we call for help.

CHORUS



Bismillahir Rahmanir Raheem (Hamd)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (حَمْد)

(بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ) ۲X

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ) ۲X

(Bismillahir Rahmanir Raheem) x2

Ar-Rahmanir-Raheem

(Bismillahir Rahmanir Raheem) x2

In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful
the Most Beneficent, the Most Merciful

In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful

(اَوَّلُ حَمْدٍ، تَنْاءِ اَلْهٰی، جَو مَالِكِ ہر ہر دَا) ۲X

(اَسْ دَا نَامِ چِتَارَنِ وَالَا كِسے مِیدَانِ نَہ ہر دَا) ۳X

(Awwal Hamd Sanaa ilaahi, jo maalik har har da) x2

(Us daa naam cheetaran wala, kisy meedaan naa harda) x3

Firstly, all praise to Allah (AJ), who is the owner of everything,
Whoever remembers His name is never a loser in any field.

CHORUS

(رَحْمَتِ دَا مِیْنِہِ پَا خُدَایَا، بَاغِ سُّکَا کَرِ ہَرِیَا) ۲X

(بُوٹَا اَسْ اُمِّیْدِ مِیْرِی دَا کَرِ دے مِیوے بَہْرِیَا) ۳X

(Rehmat daa mee'n paa khudaayaa, baagh sukka kar harya) x2

(boota aas ummeed meri da kar dy mewe bharyaa) x3

Pour the rain of mercy, O Allah (AJ)! Turn the shriveled garden green,
Make the plant of my hopes and longings full of fruit.

CHORUS



آپ مکانوں خالی اُس تھیں کوئی مکان نہ خالی) ۲X
(ہر ویلے، ہر چیز محمد، رکھدا نیت سنبھالی) ۳X

(Aap makano'n Khaali us the'n koi makaan naa khaali) x2,
(har wele har cheez muhammad, rakhda nit sanbhaali) x3

Free of any dwelling Himself, no dwelling is free of Him,
All the time, all the things, Prophet Muhammad (pbuh), He keeps in good order.

CHORUS

(فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے) ۲X
(عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانان والے) ۳X

(Fazal kareyn tey bakshey jaawan meyn wargy moonh kaley) x2,
(Adal kareyn tey thar thar kamban ucheyaan shaanaan waley) x3

God! If you show mercy, sinners like me will be absolved,
If you perform justice, even people of high station will tremble in fear.

CHORUS

(مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے) ۲X
(مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا ناں لاوے) ۳X

(Maali da come pani dena, bhar bhar mashkaan paway) x2,
(Maalik da come phal phul lana laway ya na laway) x3

The gardener's job is to water the plants and he keeps filling them with skin-bags full of water, It
is up to the Lord to allow fruits and flowers to grow

CHORUS

(کامل عشق خدایا بخشیں غیر ولوں مکھ موڑاں) ۲X
(ہکو جاناں، ہکو تکان، ہکو آکھاں لوڑاں) ۳X

(Kaamil ishq Khudaaya baksheen, gher waloon mukh morraan) x2,
(Hiko janaan, Hiko takkaan, Hiko aakhaan loran) x3

O God! Grant me life long commitment (ishq), I should turn away from all else,
I should know One, see One, and ask from the One.

CHORUS



(کنی واری توبہ بھنی میں ہاں بے اعتبارا) ۲x
(فیر تیرے در توبہ کیتی بخشیں بخشن ہارا) ۳x

(Kinni waari tawbah bhanni man haan bey atbaaraa) x2,
(Phear terey dar tawbah keetey bakhsein bakhshunhaaraa) x3

How many times I have broken my repentance? I am not trustworthy,
Again I offered repentance at your doorstep, please forgive, O the one who forgives.

CHORUS

(میں پاپی شرمندہ جھوٹا بھریا نال گناہاں) ۲x
(اکو آس تسانڈے در دی نہ کوئی اور پناہاں) ۳x

(Man paapi, sharminda, jhoota, bharea naal gunaahaan) x2
(Iko aas tusaaday dar di na koi hur pinaahaan) x3

I, a sinner, ashamed, a liar, filled with sins,
Have only a single hope, that from your doorstep, have no other protection.

CHORUS



Bismillahir Rahmanir Raheem

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ) ۲X

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ) ۲X

(Bismillahir Rahmanir Raheem) x2

Ar-Rahmanir-Raheem

(Bismillahir Rahmanir Raheem) x2

In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful
the Most Beneficent, the Most Merciful

In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful

(واہ کریم اُمت دا والی مہر شفاعت کردا) ۲X

(جبرائیل جیئے جس چاکر نبیاں دا سرکردا) ۳X

(Wah kareem ummat da waali meher shifaaet kardaa) x2

(Gibrael jahey jis chaaker nabiaan da serkerda) x3

What a kind guardian (pbuh) of the Muslim ummah, he loves and intercedes,
The likes of Gabriel are in whose service, the leader of the Prophets.

CHORUS

(سن فریاد پیراں دیا پیرا دھکا دئیں ناں مینوں) ۲X

(بے کساں دا والی توں این شرم دتی رب تینوں) ۳X

(Sun feryaad peeraan deya peera, dhaka daein na menu) x2

(Bey kasaan da waali tun aein sharam diti Rab tenu) x3

Listen to my urging, O guide of guides, please do not leave me astray,
You are a guardian of the weak, God has dressed you with modesty

CHORUS

(جے لکھ واری عطر گلابوں دھوئیے نت زبانان) ۲X

(نام اونان دے لائق ناہیں، کی قلمے دا کانان) ۳X

(Je lakh waari ittar ghulabon dooyi'e nit zubana) x2

(Naam unhaa de laaik nahi, ki qalme da kana) x3

Even if we wash our tongues thousands of times with gulab attar (fragrance),
it will not be worthy to take his name, as what is the importance of a reed Qalam (pen)



CHORUS

۲X (سبھو نور اُسے دے نوروں اُس دا نور حضوروں)
۳X (اس نوں تخت عرش دا ملیا موسیٰ نوں کوہ طوروں)

(Sabho noor oose de nooro'n, us da noor hazooro) x2
(us nu takhat arash da milya, Moosa nu koh tooro) x3

Every noor (light) is from him and his noor is from Divinely Presence, he has been granted the throne from the Arsh, and Musa (as) saw that on mountain of Toor

CHORUS

۲X (رستہ صاف نبی دے پچھے ہور نہ جاناں کائی)
۳X (اوبو کرے شفاعت ساڈی تابیں ملے ڈھوئی)

(Rasta saaf Nabi de piche hor na jano koi) x2
(oohoo kare shifaaet saadi taahi'n mil si dhoi) x3

Following Prophet is the pure way, we don't know about any other way,
he will do our intercession, he is our only support

CHORUS

۲X (یاری اندر عمر گزاری ویکھ لئیں اک واری)
۳X (ایناں اکھیں تینوں ڈٹھیا ہور ناں ویکھن کاری)

(Yaari andar umer guzaari, waekh laiye'n ik waari) x2
(aena akhiyai'n tenu didtha, hoor na wekhan kari) x3

I have spent my life in love, let me see one more time,
These eyes have seen you, may they be useless to see anything else.

CHORUS

۲X (دل بھر دے گھر بے پرواہی کرے غریب نوازی)
۳X (جس پر پاوے نگاہ محمد جت جاوے او بازی)

(Dilbar de ghar bay parwaahi kare ghareeb nawaazi) x2
(Jis par paway nighaah Muhammad, jet jaaway oo baazi) x3

In the house of beloved, aloofness helps the needy,
On whosoever He places his sight, he wins the game.

CHORUS



Inna Aataina Kal Kawthar

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

Inna Aataina Kal Kawthar

"Surely (O Muhammad) We have given you abundance (of good (Kawthar))."

(کیا شان ہے شانِ خیر البشر، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) ۲x
(رحمت نے پکارا خود بڑھ کر، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) ۲x

(Kia Shaan hey shaney khairul bashar, Inna Aataina Kal Kawthar) x2
(Rehmat ney pukaara khud bharh ker, Inna Aataina Kal Kawthar) x2

What a Glory You have Oh the best among the humans
Divine, itself have called upon you,

"Surely (O Muhammad) We have given you abundance of good (Kawthar)"

(کب حق نے گوارا فرمایا، دیکھے وہ ملال پیغمبر) ۲x
(جبرائیل کو بھیجا دے کر خبر، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) ۲x

(Kub Huq nay gawara fermaya, dekhay wo malaalay pegumber) x2
(Jibraeel ko bheja day ker khabar, Inna Aataina Kal Kawthar) x2

How can the Divine tolerate the sadness of Prophet (pbuh)?
He sends Gabriel (as) with this message,

"Surely (O Muhammad) We have given you abundance of good (Kawthar)."

CHORUS

(یہ آیت ڈالی پھولوں کی، یہ نقطے قطرے شبنم کے) ۲x
(اعراب زرو تشنید سمر، إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) ۲x

(Ye Aayet dhaali phooloun ki, ye nuqtey qatray shabnum kay) x2
(Aeraab Zaro tashneedo summer, Inna Aataina Kal Kawthar) x2

This verse is like a flower branch, its dots are like dew drops,
and all its vowel marks,

"Surely (O Muhammad) We have given you abundance of good (Kawthar)."

CHORUS



(اُنی جو صحابہ تک یہ خبر، کفار سے بولے خوش ہو کر) ۲x
(اب لاو کوئی ایسا لکھ کر، اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) ۲x

Aai jo Sahaba tak ye khabar, kuffar say bholay khush ho ker (x2)
Ab lao koi aesa likh kar, Inna Ataina Kal Kawthar (x2)

When this news reach the Sahabah, they happily ask from the non-believers,
"Can you write something like this?"
"Surely (O Muhammad) We have given you abundance of good (Kawthar)."

CHORUS

(جس دل میں تلاشِ تسکین ہو، مجروح ستم ہو غمگین ہو) ۲x
(لازم ہے پڑھے وہ شام و سحر، اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) ۲x

(Jis dil ko talaashay taskeen ho, majroohay situm ho ghumgeen ho) x2
(Lazem hey parhay wo shamo sahar, Inna Ataina Kal Kawthar) x2

The one who seeks the peace of heart, the one who is being oppressed or is sad
He should read this verse day and night,
"Surely (O Muhammad) We have given you abundance of good (Kawthar)"

CHORUS



Koi Misal Na Dholan Di

کوئی مثل نہ ڈھولن دی

(اللہ اللہ اللہ، اللہ اللہ) x ۴

(سبحان اللہ ما اجمک ما احسک ما اکملک) x ۲

(کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا) x ۲

گستاخ اکھیں کتھے جا اڑیاں

(SubhanAllah, Ma Ajmalaka, Ma Ahsanaka, Ma Akmalaka) x2

(Kithay Meharay Ali Kithay Teri Sana) x2

Gustaakh Akheea Kithay Ja Larian

Glory to Allah, who created Him (O Holy Prophet!) in the most beautiful, the best, and the most perfect mold.

Who is (the humble) Meher Ali to chant his praises;
How impudent my eyes are to aspire to the heights of his love.

CHORUS

(محبوب دا میلہ اے) x ۲

(محفل نون سجائے رکھنا) x ۲

اودھے آن دا ویلا اے

(Mehboob da meala aae) x2

(Mehfil noon sajae rakhna) x2

Udhay aan da weela aae

This gathering is for the Beloved
Keep the gathering decorated It is time for him to appear

CHORUS

(رحمت دا مہینہ اے) x ۲

(لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں) x ۲

ساڈی ٹھار مدینہ اے

(Rahmat Da Maheena ae) x2

(Lokan Deaan Lukh Thaaraan) x2

Saadi Thaar Madeena ae

It's the month of rehmat (mercy)
People may have lots of Shelters, but our shelter is only Madina

CHORUS



دساں گل کی خزینے دی) ۲x
(دنیا کھاندى اے) ۲x
خیرات مدینے دی

(Desa gul ki khezeenay di) x2
(Dunia khandi ae) x2
Kheraat madeenay di

What can I tell you about his treasury
The whole world eats from the charity of Madina

CHORUS

کوئی مثل ناں ڈھولن دی) ۲x
(چپ کر مہر علی) ۲x
ایتھے جا نینوں بولن دی

(Koi misel na dholun di) x2
(Chup kar mehray Ali) x2
Aethay ja naeiun bolun di

There is no metaphor for the Beloved
Be quiet Meher Ali. This is not the place to speak

CHORUS

(الصلوة والسلام و علیک یا رسول اللہ، الصلوة والسلام و علیک یا حبیب اللہ) ۲x
(الصلوة والسلام و علیک یا نبی اللہ) ۲x
لصلوة والسلام و علیک یا نور اللہ

(Assalato Wassalamo Alaika Ya RasulAllah,
Assalato Wassalmo Alaika Ya HabibAllah) x2
(Assalato Wassalamo Alaika Ya NabiAllah) x2,
Assalato Wassalamo Alaika Ya NurAllah

CHORUS

(حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ) ۲x

HusbunAllah Wa Nema! Waqeel, Nema! Mawla Wa Nema! Naseer (x2)

Sufficient for us is Allah, and He is the best Guardian
The Excellent Protector and the Excellent Helper.

CHORUS



(حسبى ربى جل الله ، ما فى قلبى غير الله) ۲x
(نور محمد صل الله) ۲x
حق لا اله الا الله

(Husbi Rabbi JalAllah, Maafi Qalbi Ghairullah) x2
(Noor Muhammad Sallala) x2
Haq la ilaha illallah

Sufficient is for me my Rabb. Allah is Great, there is none in my heart besides Allah
the light of Muhammad (pbuh) is haq, There is none worthy of worship but Allah.

CHORUS



Khuda Ka Zikr Karay

خُدا کا ذکر کرے

خُدا کا ذکر کرے، ذکرِ مصطفیٰ نہ کرے
ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خُدا نہ کرے

**Khuda Ka Zikr Karay Zikray Mustafa Na Karay
Hamaray Moun Main Ho Aesi Zubaan Khuda Na Karay**

which Praises God but not Mustafa (pbuh)
God forbid may we never have a tongue like it

درِ رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا
کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے

**Daray Rasool Pay Aesa Kabhi Nahee Dekha
Koi Sawal Karay Aur Wo Ata Na Karay**

We have never seen this happening at Prophet (pbuh) doorstep
That someone will ask and he has not granted

مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر
خداخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے

**Madinay Ja Kay Nikalna Na Shahar Say Bahar
Khuda Na Khaasta Ye Zindagi Wafa Na Karay**

Don't leave the city when you reach Madina
God forbid what if this life doesn't stay loyal to you

نبی کے قدموں پہ جس دم غلام کا سر ہو
قضا سے کہہ دو کہ اک لمحہ بھی قضا نہ کرے

**Nabi Kay Qadmoo Pay Jis Dam Gulaam Ka Sir Ho
Qaza Say Keh Do Kay Ek Lamha Bi Qaza Na Karay**

The moment when my head is on Prophet's (pbuh) feet
Tell the death, not to wait for even a moment



اسیر جس کو بنا کر رکھیں مدینے میں
تمام عمر ربائی کی وہ دعا نہ کرے

**Aseer Jis Ko Bena Kar Rakhain Madeenay Main
Tumaam Umer Rahaaee Ki Wo Dua Na Karay**

The one who is taken as a captive in Madina,
All his life he will never ask for freedom

کہا خُدا نے شفاعت کی بات محشر میں
مرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے

**Kaha Khuda Nay Shafaaet Ki Baat Mahshar Main
Mera Habib Karay Koi Doosra Na Karay**

God said in the matter of intercession on the day of judgment
No one speaks but my beloved (pbuh)

شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب
وہ آدمی نہیں جو اُن کا حق ادا نہ کرے

**Shaooray Naat Bhi Ho Aur Zubaan Bhi Ho Adeb
Wo Adami Nahi Jo Un Ka Haq Adaa Na Karay**

If you have an understanding of praising the Prophet (pbuh) and also have a tongue
you are not a man until you do justice to praising him.



Koi Sleeka Hay Arzo Ka

کوئی سلیقہ ہے آرزو کا

۲X (یہ سب تمہارا کرم ہے آقا)
کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے
(کوئی سلیقہ ہے آرزو کا) ۲X
نہ بندگی میری بندگی ہے

(Ye Sub Tumhaara Karam Hay Aaqa) x2,
Kay Baat Ab Tak Bani Hui Hay
(Koi Saleeka Hay Arzo Ka) x2,
Na Bandagi Meri Bandagi Hay

I don't even know how to wish, nor how to worship
These are all your blessings oh Master that everything is fine

CHORUS

۲X (کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں)
(تمہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے) ۲X
تمہارے در سے ہی لو لگی ہے

(Kisi Ka Ahsaan Kio Uthaein, Kisi Ko Haalaat Kio Bataein) x2
(Tumhee Say Mangain Gay Tum He Do Gay) x2,
Tumharay Dar Say He Lo Lagi Hay

Why to ask for anyone's favour and why to place our accounts in front of anyone
I Will only ask from you and you will give, all my hopes are attached from your door

CHORUS

۲X (عطا کیا مجھ کو دردِ اُلفت، کہاں تھی یہ پُر خطا کی قسمت)
(میں اس کرم کے کہاں تھا قابل) ۲X
حضور کی بندہ پروری ہے

(Ata Keeya Muj Ko Darday Ulfat, Kahaa Thi Ye Pur Khataa Ki Qismat) x2
(Main Is Karam Kay Kahan Tha Qaabil) x2,
Huzoor Ki Banda Perwari Hay

You have granted me the pain of Love, this sinner didn't deserve it
I Was not worthy of this bounty, Master! its all your kindness

CHORUS



(تجلیوں کے کفیل تم ہو، مُرادِ قلبِ خلیل تم ہو) ۲X
(خدا کی روشن دلیل تم ہو) ۲X
یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے

(Tajallioo Kay Kafeel Tum Ho, Muraaday Qalbay Khaleel Tum Ho) x2
(Khudaa Ki Roshan Daleel Tum Ho) x2,
Ye Sub Tumhari He Roshni Hai

You are the source of all the emanations, you are the desire of Ibrahim's (as) heart
You are the proof of divinity, everything is from your light

CHORUS

(بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراجِ مُنیر کہیے) ۲X
(جو سِرِ بسِرتِ ہے کلامِ ربی) ۲X
وہ میرے آقا کی زندگی ہے

(Basheer Kahiye Nazeer Kahiye, Unhain Siraajim Muneer Kahiye) x2
(Jo Sir Ba Sir Hay Kalaamay Rabbi) x2,
Wo Meray Aaqa Ki Zindagi Hay

What to call you, 'the bearer of good news', or 'the one who warns', or to call you 'illuminated Sun'. All the Words of God (Quran), is the life of my Master (pbuh)

CHORUS

(یہی ہے خالدِ آسائیںِ رحمت، یہی ہے خالدِ بنائے عظمت) ۲X
(نبیٰ کا عرفانِ زندگی ہے) ۲X
نبیٰ کا عرفانِ بندگی ہے

(Yahi Hay Khaaled Asaasay Rahmat, Yahi Hay Khaaled Bina ay Azmat) x2
(Nabi Ka Irfaan Zindagi Hay) x2,
Nabi Ka Irfaan He Bandagi Hay

This is the source of all the blessings, source of all greatness
Recognition of Prophet (pbuh) is life, Recognition of Prophet (pbuh) is worshipness.



Lijeo Muhammad Naam

ليجيؤ محمد نام

(ليجيؤ محمد نام) ۲X ، صل الله

(ليجيؤ محمد نام) ۲X

(Lijeo Muhammad Naam) x2, SallAllah

(Lijeo Muhammad Naam) x2

Take the name of Muhammad (pbuh)

۳X [(ليجيؤ محمد نام) ۲X ، صل الله]

(ليجيؤ محمد نام) ۲X

(تيرے بگڑے بنين سب كام) ۲X

[(Lijeo Muhammad Naam) x2, SallAllah] x3

(Lijeo Muhammad Naam) x2

(Teray Bigray Banay Sub Kaam) x2

Take the name of Muhammad (pbuh) and all your unresolved matters will be solved

CHORUS

(مہک اٹھا اک اک گھر آنگن) ۲X ، (أجياروں سے تَن مَن درپن) ۲X

(اُن کے نام سے صُبْحِ روشن) ۲X ، (جگ مگ اُن سے شام) ۲X

(Mahak Utha Ek Ek Ghar Angan) x2, (Ujiaroon Say Tan Man Darpan) x2

(Un Kay Naam Say Subhay Roshan) x2, (Jug Mug Un Say Shaam) x2

Every corner of the house is sanctified, eyes, heart and body is illuminated
By his name the mornings are enlightened, From him the evenings shines.

CHORUS

(رُوپ سَرُوپ، اَنُوپ نيارا) ۲X ، (باتين جيسے نور کی دھارا) ۲X

(سب کا بھروسہ، سب کا سہارا) ۲X ، (اُن پہ درود و سلام) ۲X

(Roop Sroop Anoop Niara) x2, (Batein Jasay Noor Ki Dhara) x2

(Sub Ka Bharosa Sub Ka Sahara) x2, (Un Pay Daroodo Salam) x2

His beauty and elegance is extraordinary, His talks are like streams of noor
He is everyone's trust and support, benedictions and salutations be upon him.

CHORUS



اُن كى صورت پيارى پيارى (2x) ، (اُن كى خوشبو كيارى كيارى) (2x)
(دو جگ ميں اُن كى سردارى) (2x) ، (هم سب چاكر بے دام) (2x)

(Un Ki Soorat Pyari Pyari) x2, (Un Ki Khushbu Kiari Kiari) x2
(Do Jug Main Un Ki Sardari) x2, (Hum Sub Chaakar Bay Daam) x2

He has the most beautiful face. His fragrance is like, beds of flowers
He rules both worlds, we all are his unpaid servants

CHORUS



Tu Shah e Khuban Tu Jan e Janan

توشاہِ خوباں تو جانِ جاناں

(توشاہِ خوباں تو جانِ جاناں) ۲X ، (بے چہرہ اُمُّ الکتاب تیرا) ۲X

(Tu Shahay Khuban Tu Janay Janan) x2, (Hay Chehra Umul Kitab Tera) x2

You are king of all the beauty, you are most beloved, your face is Book of Allah

(توشاہِ خوباں تو جانِ جاناں) ۲X ، (بے چہرہ اُمُّ الکتاب تیرا)

(نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا) ۲X ، (مثال تیری جواب تیرا) ۲X

(Tu Shahay Khubaan Tu Janay Janaan) x2, Hay Chehra Umul Kitaab Tera
(Na Bun Sakee Hay, Na Bun Sakay Ga) x2, (Misaal Teri Jawab Tera) x2

You are king of all the beauty, you are most beloved, your face is Book of Allah
Neither can anyone be like you nor can reach your level

(تو سب سے اول، تو سب سے آخر ملا ہے حُسنِ دوام تجھ کو) ۲X

ملا ہے حُسنِ دوام تجھ کو

(بے عمر لاکھوں برس کی تیری) ۲X

مگر ہے تازہ شباب تیرا

(Tu Sub Say Awal, Tu Sub Say Akhar, Mila Hay Husnay Dwaam Tuj ko) x2
Mila Hay Husnay Dwaam Tuj ko

(Hay Umer Lakhuh Baras Ki Teri) x2, Magar Hay Taza Shabab Tera

You are the beginning, you are the end you have been granted the beauty of eternity
Your age is of billions of years but your youth is fresh

CHORUS

(خُدا کی غیرت نے ڈال رکھے، ہیں تجھ پہ ستر ہزار پردے) ۲X

ہیں تجھ پہ ستر ہزار پردے

(جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں) ۲X

جو اک بھی اُٹھتا حجاب تیرا

(Khuda Ki Gerat Nay Daal Rakhay, Hain Tuj Pay Sattar Hazar Parday) x2
Hain Tuj Pay Sattar Hazar Parday

(Jahan Main Bunja Tay Toor Lakhun) x2, Jo Ek Bi Uthta Hijaab Tera

Allah's modesty had put seventy thousand(unlimited) veils on you
Thousands of Toor would have been made in this world, if only one veil was to be lifted

CHORUS



(ہو مُشک و عنبر یا بوئے جنت، نظر میں اُسکی ہے بے حقیقت) ۲x
نظر میں اُسکی ہے بے حقیقت
(مِلا ہے جس کو، مِلا ہے جس نے) ۲x
پسینہ رشکِ گلاب تیرا

(Hu Mushko Amber Ya Buye Jannat, Nazar Main Uski Hay Bay Haqiqat) x2
Nazar Main Uski Hay Bay Haqiqat
(Mila Ha Jis Ko Mala Hay Jis Nay) x2, Paseena Rashkay Gulaab Tera

Even if it's the scent of Amber, or the fragrance of Jannah, It has no value for those who got your sweat and put on their face, the sweat that makes the rose envious.

CHORUS

(میں تیرے حُسن و بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زباں کے صدقے) ۲x
میں تیری میٹھی زباں کے صدقے
(با رنگِ خوشبو دِلوں پہ اُترا) ۲x
بے کتنا دلکش خطاب تیرا

(Main Teray Husno Bian Kay Sadqay, Main Teri Meethi Zubaan Kay Sadqay) x2
Main Teri Meethi Zubaan Kay Sadqay
(Ba Rangay Khushboo Dilo Pay Utra) x2, Hay Kitna Dilkash Khitaab Tera

May I be sacrificed on the beautiful way in which you narrate, may I be sacrificed on your sweet tongue. Like a fragrance it descends on the hearts, how splendid is the way you address.

CHORUS

(بے تو بھی صائم، عجیب انسان، جو خوفِ محشر سے بے ہراساں) ۲x
جو خوفِ محشر سے بے ہراساں
(ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا) ۲x
وہی تو لیں گے حساب تیرا

(Hay Tu Bi Saaem Ajeeb Insan Jo khof e Mahshar Say Hay Harasaan) x2
Jo khof e Mahshar Say Hay Harasaan
(Aray Tu Jin Ki Hay Naat Parta) x2, Wohi To Lai Gai Hisaab Tera

Saim, you are a strange person that you are afraid of day of judgement, The One you praise is the One who will be taking your account that day.

CHORUS



Nabi Ka Zikr He Khuda Ka Zikr Hay

نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے

نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے
یداللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے
صل علی نبینا، صل علی محمد، صل علی شفینا، صل علی محمد

**Nabi Ka Zikr Hi Khuda Ka Zikr Hai, Nabi Ki Baat Hi Khuda Ki Baat Hai
Yed Dullah Keh Dia To Sabit Ho Gia, Nabi Ka Haath Hi Khuda Ka Hath Hai
Salle Ala Nabi, Ena, Salle Ala Muhammadin, Salle Ala Shafiena, Salle Ala
Muhammadin**

Remembrance of Prophet (pbuh) is remembrance of God, What Prophet (pbuh) say about Divinity is what God really is. when we say 'Yadullah' (hand of Allah) so this is the proof, hand of Prophet (pbuh) is the Hand of God

ہم بے ایسی عطا ہے نبی کی، بھول جائیں گے کیسے
ہم کو خطرے ڈرائیں گے کیسے، پاس آیں گے کیسے
یہ آنکھیں نم نہیں، کوئی بھی غم نہیں، کرم حضور کا ہمارے ساتھ ہے
صل علی نبینا، صل علی محمد، صل علی شفینا، صل علی محمد

**Hum Pe Aisi Ata Hia Nabi Ki, Bhol Jayein Ge Kaise Hum Ko Khatre Darain Ge Kaise
Paas Ayein Ge Kaise**

**Yeh Aankhein Nam Nahi, Koi Bhi Gham Nahi Karam Hazoor Ka Hamare Saath Hai
Salle Ala Nabie, Ena, Salle Ala Muhammadin, Salle Ala Shafiena, Salle Ala
Muhammadin**

we have so much blessings of Prophet (pbuh), How can we forget, how can we be afraid of the difficulty how can difficulty even come near us
These eyes are not watery, there is no sadness, blessings of prophet (pbuh) is with us

ان کے صدقے ہی مہکے ہوئے ہیں دو جہاں کے نظارے
ان کے فیض کرم سے ہے روشن، کہکشاں اور ستارے
یہ ساری روشنی، یہ ساری دلکشی، میرے نبی کے حسن کی ذکوۃ ہے
صل علی نبینا، صل علی محمد، صل علی شفینا، صل علی محمد

**Un Ka Sadqa Hi Mehke Huwe Hain Do Jahan Ke Nazare
Un Ke Faize Karam Se Hai Roshan Kehkshan Aur Sitare
Yeh Saari Roshni, Ye Sari Dilkashi, Mere Nabi Ke Husan Ki Zakat Hai
Salle Ala Nabie, Ena, Salle Ala Muhammadin, Salle Ala Shafiena, Salle Ala
Muhammadin**



For his sake the sights of both worlds are sanctified, with his emanations and blessings, the stars and galaxies are illuminated. All these lights ,all these beauties are the charity from my Prophet's (pbuh) beauty

بے عمل ہوں مگر میرے آقا، نظر رحمت کریں گے
میرے جیسے گناہگار کی بھی وہ شفاعت کریں گے
بڑے عظیم ہیں، بڑے کریم ہیں، وہ جن کے ہاتھ میں میری نجات ہے
صل علی نبینا ، صل علی محمد، صل علی شفینا، صل علی محمد

**Be'amal Hon Magar Mere Aaqa, Nazre Rehmat Karein Ge
Mere Jaise Gunahgar Ki Bhi Woh Shafa'at Karein Ge.
Bare Azeem Hain, Bare Kareem Hain, Wo Jin Ke Haath Mein Mere Nijat Hai,
Salle Ala Nabie, Ena, Salle Ala Muhammadin, Salle Ala Shafienna, Salle Ala
Muhammadin**

I am without any good deeds but my master will bestow me with his Nazar of blessings, he will also intercede for a sinner like me. He is great, he is kind, in his hand is my salvation

وہ جو کہہ دیں وہ ہو کے رہے گا، یہ ہی کہتا ہے قرآن
ان کا فاروقی زندہ ہے فرماں، یہ ہمارا ہے ایمان
اگر وہ دن کہیں تو راتیں دن بنیں، کہیں وہ دن کو رات تو وہ رات ہے
صل علی نبینا ، صل علی محمد، صل علی شفینا، صل علی محمد

**Woh Jo Keh Dein Woh Ho Ke Rahe Ga Yeh Hi Kehta Hai Quran
Un Ka Farooqi Zinda Hai Farman, Yeh Hamara Hai Eeman,
Agar Wo Din Kehin To Raatein Din Banein, Kahein Wo Din Ko Raat To Woh Raat Hia,
Salle Ala Nabie, Ena, Salle Ala Muhammadin, Salle Ala Shafienna, Salle Ala
Muhammadin**

Whatever he will say would happen, This is what Quran says
Oh Farooqi his words are alive, This is our faith
if he says "day" the nights will turn into days, if he says "night" to the day then day will become
the night.



Koi Nabi Nahi Hay Mere Mustafa Ke Baad

کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد

(کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد) ۲X

(شیر خدا نہیں ہے علی مرتضیٰ کے بعد) ۲X

(Koi Nabi nahi hay mere Mustafa ke baad) x2
(Shere Khuda nahi hay Ali Murtaza ke baad) x2

There is no Prophet after Mustafa (pbuh), and no Ioin of God after Murtaza (as)

(نہ ہیں کسی کے بیٹے حسین و حسن سے اور) ۳X

(نہ فاطمہ سی ماں ہے کوئی فاطمہ کے بعد) ۲X

(Na hein kisi ke batay Hussain o Hassan se aur) x3
(Na Fatima si ma he koi Fatima ke baad) x2

There are no Sons like Hassan (as) and Hussain (as)
Nor there is any Mother like Fatima (as)

CHORUS

(جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں) ۳X

(ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد) ۲X

(Jaisi padhi Hussain ne teeron ke chaon me) x3
(Aisi namaz phir na hui Karbala ke baad) x2

The way Hussain had offered his prayers under the shadow of arrows
A namaz like that have never been performed after Karbala

CHORUS

(عباس تیرے نام کو میں اپنے عشق سے) ۳X

(پہلے وفا کے لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد) ۲X

(Abbas tere nam ko main apne ishq se) x3
(Pehle wafa ke likhun ya likhun wafa ke baad) x2

Abbas(as) I will write your name with my ishq(Love)
But should I write it before your attribute of loyalty or after that

CHORUS



۳X (شبییر کہہ کے بھائی بُلاتے رہے جسے)
۲X (حُر اور کیا سوال کرے اِس عطا کے بعد)

(Shabbir kehke bhai bulate rahe jise) x3
(Hurr aur kya sawal kare is ata ke baad) x2

Shabir (as) use to call him brother ,
what else would 'Hur' need after such a big blessing

CHORUS

۳X (دربارِ شام میں کہا زینب نے سُن یزید)
۲X (ڈرتے نہیں کسی سے بھی ہم تو خدا کے بعد)

(Darbare sham me kaha Zainab ne sun Yazeed) x3
(Darte nahi kisi se bhi hum to Khuda ke baad) x2

In the court of Sham, Bibi Zainab (as) said, "Listen oh Yazeed,
we don't fear anyone except God."

CHORUS

۳X (اتنے ستم ہوئے ہیں محمد کی آل پر)
۲X (ہوتی رہی ہے ابتدا ہر انتہا کے بعد)

(Itnay situm huye hain Muhammad ki aal per) x3
(Hoti rehi hay ibteda her inteha kay baad) x2

The progeny of Muhammad (pbuh) has been oppressed extremely
There is always a new beginning after every extreme End.

CHORUS



Khabaray Tahayyuray Ishq Sun

خبر تحیرِ عشق سن

سراج اورنگ آبادی (poet)

خبر تحیرِ عشق سن، نہ جنوں رہا، نہ پری رہی
نہ تو تو رہا، نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی

Khabaray tahayyuray ishq sun, na junoo rahaa, na pari rahi
Na to tuu rahaa, na to mai raha, jo rahi so bekhbari rahi

Learn, oh absorbing love, that neither the obsession (for the beloved) is left nor and the object (pari) of love survived. The only thing that is left is a state of self-unconsciousness: where neither you exist nor I exist.

شہ بے خودی نے عطا کیا، مجھے اب لباسِ برہنگی
نہ خرد کی بخیہ گری رہی، نہ جنوں کی پردہ دری رہی

Shahay beKhudi ne ata kiya mujhe ab libasay barahnagi
Na Khirad ki bakhyaagari rahi, na junoo ki pardadari rahi

My beloved has bestowed me with a dress of nakedness (libas-e-barahanagi). Neither the intellect (khirad) can repair it nor does the insanity (junoon) rip it. Meaning what a dress (nakedness) my beloved has conferred upon me! I am now free from the trouble of ripping it or mending it (depending on the mental state I am in). My focus is my beloved not my own appearance or even existence.

چلی سمتِ غیب سے اک ہوا کہ چمن ظہور کا جل گیا
مگر ایک شاخِ نہالِ غم جسے دل کہیں سو ہری رہی

Chali simtay Ghaib se ek hawa kay chaman zahoor kaa jal gaya
Magar ek shaaKhay nihaalay Gham jise dil kaho so hari rahi

A breeze came from the unseen dimension (simt-e-ghaib) and burned the entire garden of existence (zahoor) but a branch of the tree of sorrow (nihal-e-gham) that is called heart remained green.



نظرِ تغافلِ یار کا گلہ کس زباں سے کروں بیاں
کہ شرابِ حسرت و آرزو، خمِ دل میں تھی سو بھری رہی

**Nazray taGhaafulay yaar ka gila kis zubaan se karu bayaan
kay sharabay Husrato aarzu khumay dil mai thi so bhari rahi**

I am speechless (kis zubaan). How can I complain the indifferent and uncaring glances (nazar-e-taghaful-e-yaar) of my beloved? I am indebted to those eyes. Why? My heart is brimming with his desire (aarzu) as if a vessel (khum) is filled with hundred goblets of wine (sharaab-e-sad-qadaah).

وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درسِ نسخہٴ عشق کا
کہ کتابِ عقل کی طاق پر جو دھری تھی تیوں ہی دھری رہی

**Voh ajab ghari thi kay jis ghari liya dars nuskha ae ishq ka
Kay kitaab aql kii taaq par joo dhari thi tun hi dhari rahi**

At that strange moment when I started taking lesson in love (dars-e-nuskha-e-ishq) I left my intellect or brain (kitaab-e-aql- book is synonymous with intellect as one needs brain to read or write) in an alcove, where it is lying ever since.

ترے جوشِ حیرتِ حسن کا اثر اس قدر ہے یہاں ہوا
کہ نہ آئینے میں جلا رہی، نہ پری میں جلوہ گری رہی

**Tere joshay hairatay husn ka asar is qadar hey yahaN hua
kay na aayine mai rahi jilaa, na pari ko jalva gari rahi**

Bewildered by your beauty (Josh-e-hairat-e-husn), I had such a mark on my heart (yahan is a pointer towards the heart) that the heart (aayina means heart) has lost all its shine (the basic quality of a mirror) and angel (pari is used as simile to refer profound beauty) had no beauty left to reveal.

کیا خاکِ آتشِ عشق نے دلِ بے نوائے سراج کو
نہ خطر رہا، نہ حذر رہا، جو رہی سو بے خطری رہی

**Kiyaa Khaak aatishay ishq ne dilay benavaa ae Siraj ko
Na Khatar raha, na hazar raha, ju rahi soo beKhatari rahi**

The fire of love (aatish-e-ishq) has burned the voiceless heart (dil-e-benava) of Siraj to the ashes. There is no feeling of vulnerability or threat left. Only freedom from fear (be-khatari) is left.



Wo Kamale Husnay Hazoor Hey

وہ کمالِ حُسنِ حضورِ ہے

(وہ کمالِ حُسنِ حضورِ ہے، کہ گُمانِ نُقصِ جہاں نہیں) ۲x
(یہی پھولِ خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دُھواں نہیں) ۲x

(Wo Kamale Husnay Huzoor Hay, Kay Gumaan-e-Naqas Jahaan Nahee) x2
(Yahee Phool Khaar Say Door Hay, Yahee Shama Hay kay DuaaN Nahee) x2

That is the perfected beauty of Prophetﷺ that there is no doubt of any flaw
This is the flower which is far away from thorns, this is the light without any smoke

بُخدا خُدا کا یہی ہے در نہیں اس میں کوئی مفرّ مفرّ
جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

Bakhuda Khuda Ka Yahee Hay Dar, Nahee Is Main Koi Mafar Makar
Jo wahan say Ho Yahee Aa kay Ho, Jo Yahan Nahee Wo Wahan Nahee

By the name of God, His doorstep is the doorstep to God and there is no Doubt about it
whatever your state there (at his doorstep) would be your state here, If you are not in that
state(of presence)here that means you are also not there(at his doorstep)

میں نثار اُن کے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زباں نہیں
وہ سُخن ہے جس میں سُخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں

Main Nisaar unkay Kalam Per, Mili Yun To Kis Ko Zubaan Nahee
Wo Sukhan Hay Jis MaiN Sukhun Na Ho, Wo Biaan Hay Jis Ka Biaan Nahee

May I be sacrificed on his words, no body have a tongue like that
a speech that have no words, a description that can't be described

تیرے آگے یوں ہیں دبے اُچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے
کوئی جائے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم جاں نہیں

Teray Aagay Yun Hain Dabay Luchay, Fusuhaa Arab Kay Baray Baray
Koi Janay Mun MaiN Zubaan Nahee, Nahee Balkay Jism Main Jaan Nahee

The Big knowers of the Arabs are nothing in front of you. In front of him its like they don't have
tongues in their mouths and like they don't have life in their bodies



وہی لا مکاں کے مکین ہوئے، سرِ عرش تخت نشین ہوئے
ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں

**Wahee La Makaan K Makeen Huye, Saray Arsh Takht Nashee Huye
Malakuto Mulk MaiN Koi Shay, Nahee Wo Jo Tuj Pay Ayaan Nahee**

He is the dweller of the heavens, On the Arsh(heaven) he is the thrown holder
In Malakut and in Mulk there is is nothing that is not known to Him

کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا
دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں

**Karoo Teray Naam Pay Jaan Fida, Na Bus Ek Jaan Do Jahaan Fida
Do Jahaan Say Bi Nahee Ji Bhara, Karoon Kia KaroruN Jahaan Nahee**

May i give up my life on your name, not just this one life but all the heavens and earth
To give up both worlds are not enough, what should i do there are not billions of worlds to give
up on your name

کروں مدح اہلِ دُولِ رضا پڑے اس بلا میں میری بلا
میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہءِ نان نہیں

**Karoon Madha Ahalay Duwal Raza, Paray Is Bala MaiN Meri Bala
MaiN Gada Hun Apnay Kareem Ka, Mera Deen Para a Naa Nahee**

Oh Raza, I will never fall into praising these wealthy people. I am the beggar to my beneficent
giver, My religion doesn't depend on a piece of bread.



Na Pochiye Kay Kia Hussain Hay

نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے

کیا حسین ہیں، (میرا بادشاہ حسین ہے) ۲X

Kya Hussain Hay, (Mera Badshah Hussain Hay) x2

Who is Hussain (as), Hussain (as) is my King.

نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہیں، ۲X

کیا حسین ہیں، (میرا بادشاہ حسین ہے) ۲X

(خدا کے دین کا نا خدا) ۲X

ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے

(Na Poocheeyay Kay Kya Hussain Hay) x2,

Kya Hussain Hay, (Mera Badshah Hussain Hay) x2

(Khuda Ki deen Ka Na Khuda) x2,

Har Ibtada Ki Ibtada, Karam Ki Inteha Hussain Hay

Don't ask who Hussain (as) is, Hussain (as) is my King. He is a Guide to the Religion of God, He is the beginning of every beginning, he is the extreme of blessings.

CHORUS

کرے جو کوئی ہمسری، کسی کی کیا مجال ہے

جہاں میں ہر لحاظ سے حسین ہے مثال ہے

(یہ ہو چکا ہے فیصلہ) ۲X

نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے

Karay Jo Koi Humsari, Kisi Ki Kia Majaal Hay

Jahan Mai Her LeHaaz Say, Hussain Bay Misaal Hay

(Ye Ho Chuka Hay Faisla) x2,

Na Koi Doosra Khuda, Na Koi Doosra Hussain Hay

No one have that dare to want to be equal to him. In every aspect in this world, there is no match for Hussain (as). This has already been decided that there is no other God, Nor there is any other Hussain (as)

CHORUS



بے جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے
 یہ پنجن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے
 (حسن کا پہلا ہمسفر) ۲X،
 علی کا دوسرا پسر، (امام تیسرا حسین ہے) ۲X

**Hay Jis Ki Fikar Karbala, Hussain Wo Dimaag Hay
 Ye Panjtan Ki Anjuman Ka Panchwan Chiraag Hay
 (Hassan Ka Pehla Humsafar) x2,
 Ali Ka doosra Pesar, Imam Teesra Hussain Hay**

Mind of Hussain (as) is the mind who thought about Karbala. In the association of Punjtan (five holy personalities) Hussain (as) is their fifth lamp. The first companion to Hassan (as), the second son To Ali (as), the third Imam is Hussain (as)

CHORUS

حسین سے جو دور ہے، وہ سب غموں سے چور ہے
 حسین کے جو پاس ہے، غم جہاں سے دور ہے
 (یہ دین جس کی دین ہے) ۲X،
 جو زندگی کا چین ہے، (وہ سچا قافیہ حسین ہے) ۲X

**Hussain Say Jo Door Hay, Wo Sub Gamoon Say Choor Hay
 Hussain Kay Jo Pas Hay, Gamay Jahan Say Door Hay
 (Ye Deen Jis Ki Dain Hay) x2,
 Jo Zindagi Ka Chaen Hay, Wo Sucha Kafia Hussain Hay**

Whoever is far from Hussain (as), he is burdened with every sadness. Whoever is near Hussain (as), sadness is away from him. This religion is a gift from him, which is peace of our lives, Hussain (as) is a true match for this responsibility

CHORUS

کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں
 وہ حشر ہو گا حشر میں کہ الحفیظ الامان
 (جہاں بھی چھپنے جاو گے) ۲X،
 کہیں بھی بچ نہ پاو گے، (کہ ہر جگہ میرا حسین ہے) ۲X

**Karo Gay Gar Mukhalifat Gamay Hussain Ki Yahan
 Wo Hashar Ho Ga Hashar Mai Kay Al-Hafeez, Al-Amaan
 (Jahan Bhi Chupnay Jao Gay) x2,
 Kahee Bhi Buch Na Pao Gay, Kay Har Jaga Mera Hussain Hay**

If you will Go against Hussain's (as) sorrow, you will be in such a bad situation on the day of judgment that may Allah save us from that. Wherever you will go to hide, you will not find salvation anywhere, Everywhere is my Hussain (as)

CHORUS



شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے
وہ بد عمل ہے بد نصیب، اسی پہ بیشمار ہے
(ارے اوہ دشمن عزا) ۲x،
تو مر ذرا لحد میں جا، (پتہ چلے گا کیا حسین ہے) ۲x

**Shaheeday Karbala Ka Gum Jisay Bhi Na Gwaar Hay
Wo Bud Amal Hay Bud Naseeb, Usi Pay Bay Shumaar Hay
(Aray O Dushmanay Aza) x2,
Tu Mar Zara Lahad May Ja, (Pata Chalay Ga Kya Hussain Hay) x2**

If the tragedy of the martyr of Karbala is unpleasant to anyone,
He is the sinner and the unfortunate one,
Oh, the enemy of Aza (sorrow of Hussain (as)) when you will die and go to the grave, you will
know what Hussain (as) really is.

CHORUS



Qamarun

قَمَرٌ

قَمَرٌ قَمَرٌ قَمَرٌ سَيِّدِنَا النَّبِيَّ قَمَرٌ
وَجَمِيلٌ وَجَمِيلٌ وَجَمِيلٌ سَيِّدِنَا النَّبِيَّ وَجَمِيلٌ

(Qamarun, Qamarun, Qamarun Sidna-n-Nabi, Qamarun
Wa-Jamil, Wa-Jamil, Wa-Jamil Sidna-n-Nabi, Wa-Jamil) x2

Moonlike, moonlike, moonlike is the appearance of our master, the Prophet.
And beautiful, and beautiful, and beautiful is our master, the Prophet, and beautiful.

(وَكَفِ الْمَصْطَفَى كَالْوَرْدِ نَادِي اللَّهِ . اللَّهُ
وَعَطْرُهُ يَبْقَى إِذَا مَسَّتْ أَيَادِي اللَّهِ . اللَّهُ) ۲ X
(وَعَمَّ نَوْلُهَا كُلَّ الْعِبَادِي) ۳ X
حَبِيبُ اللَّهِ يَا خَيْرَ الْبَرَى

(Wa-kaffu-l-Mustafa ka-l-Wardi nadi. Allah. Allah.
Wa-Eitruha yabqa 'idha masat 'ayadi Allah. Allah.) x2
(Wa-amma nawaluha kulla-l-ibadi) x3
Habibu-llahi ya khayra-l-baraya

And the palm of the Chosen One is like a rose, the fresh. O' God. O' God.
And its scent remains upon the touching of hands O' God. O' God.
And his kindness encompasses the all of God-serving mankind.
The Beloved of God, O' best of creation.

CHORUS

(وَلَا ظِلَّ لَهُ بَلْ كَانَ نُورًا . اللَّهُ . اللَّهُ
تَنَالُ الشَّمْسُ مِنْهُ وَالْبَدُورُ اللَّهُ . اللَّهُ) ۲ X
(وَلَمْ يَكُنِ الْهُدَى لَوْلَا ظُهُورُهُ) ۳ X
وَكُلُّ الْكُونِ أَنْارٌ بِنُورِ طَهْ

(Wa-la zillu llahu bal kana nura. Allah. Allah.
Tanala-sh-shamsa minhu wa-l-budura. Allah. Allah) x2
(Wa-lam yakuni-l-huda lawla zuhurah) x3
Wa-kullu-l-kawni 'anaru bi-nuri Ta-Ha

And there's no shadow from him, for he is the Light. O' God. O' God.
And both sun and moon have been taking it from him. O' God. O' God.
And there's no Guidance, without his presence.
And all of the universe is illuminated by the light of Ta-Ha.

CHORUS



Allahumma Salli Ala Muhammad wa Ala Ale Muhammad wa Sallim

اللهم صلى على محمد و على آل محمد وسلم

(اللهم صلى على محمد و على آل محمد وسلم) x4

Allahumma Salli Ala Muhammad wa Ala Ale Muhammad wa Sallim

O Allah, send blessings upon Muhammad (pbuh)
and the family of Muhammad (pbuh)

(الف - الله چنبے دی بوٹی مُرشد من وچ لاندہ ہو
جس گت اُتے سوہنا راضی ، اوہو گت سکھاندا ہو) x
(ہر دم یاد رکھے ہر ویلے ، سہونا اٹھدا بہندا ہو) x
(آپ سمجھ سمجھیندا باہو) x، آپ آپے بن جاندا ہو

(Alif-Allah chambe dee bootee, Murshid man wich laandaa hoo
Jis gatt utte sohanaa raazee, Oho gatt sikhaandaa hoo) x2
(Hardam yaad rakhe har wele, Sohnaa uthaandaa bahaandaa hoo) x2
(Aap samajh samjhendaa Bahoo) x2, Aap aape ban jaandaa hoo

My master has sown in my heart, the jasmine of Allah's Name.
He has taught me how to captivate, the heart of my charming Beloved.
He keeps me in his thoughts eternally, He always makes me do his will.
He himself grants me his wisdom, O Bahu, He himself molds me into his own real Self.

(الف الله چنبے دی بوٹی ، مُرشد من وچ لائی ہو
نفی اثبات دا پانی ملنیا ، ہر رگے ہر جائی ہو) x
(اندر بوٹی مشک مچایا ، جان پھلن تے آئی ہو) x
(جیوے مرشد کامل باہو) x، جین اے بوٹی لائی ہو

(Alif-Allaah chambe dee bootee, Murshid man wich laaee hoo
Nafee asbaat daa paanee milia, Har rage har jaaee hoo) x2
(Andar bootee Mushk machaayaa, Jaan phullan te aae hoo) x2
(Jeeve murshid kaamil Baahoo) x2, Jain eh bootee laaee hoo

My Master (Spiritual Guide) has planted in my heart, The jasmine of Allah's Name.
Both my denial that the Creation is real and my embracing of God,
The only reality, Have nourished the seedling down to its core,
When the buds of mystery unfolded into the blossoms of revelation,
My entire being was filled with God's Fragrance.
May the perfect Master Who planted this jasmine in my heart, Be ever blessed, O Bahu!



اللہ پڑھیوں حافظ ہویوں ، نہ گیا حجابوں پردا ہو
پڑھ پڑھ عالم فاضل ہویوں ، طالب ہویوں زر دا ہو
لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں ، ظالم نفس نا مردا ہو
باجھ فقیراں کسے نہ ماریا ، ایہو چور اندر دا ہو

**Allah parhion haafiz hoion, Na giaa hijaabon pardaa hoo
Parhh Parhh aalim faazil hoion, Taalib hoion zar daa hoo
Lakh hazaar kitaabaan parhiaan, Zaalim nafs na mardaa hoo
Baajh faqeeraan kise na mareya, Eho chor andar daa hoo.**

You have read the name of God over and over,
You have stored the holy Qur'an in your memory,
But this has still not unveiled the hidden mystery.
Instead, your learning and scholarship,
Have sharpened your greed for worldly things.
None of the countless books you've read in your life,
Has destroyed your brutal ego.
Indeed, none but the Saints can kill this inner thief,
For it ravages the very house in which it lives.

اندر بھی ہو باہر بھی ہو , باہو کتھاں لبھیوے ہو
سنے ریاضتاں کر کراباں , خون جگر دا پیوے ہو
لکھ ہزار کتاباں پڑھ کے , دانشمند سدیوے ہو
نام فقیر تھیں دا باہو , قبر جنہاں دی جیوے ہو

**Andar bhi hoo baahir bhi hoo, Baahoo kithan labheeve hoo
Sai riaazatan kar karaahan, Khoon jigar daa peeve hoo
Lakh hazaar kitaaban parh ke, Daanishmand sadeeve hoo
Naam faqeer tahendaa Baahoo, Qabar jahendee jeeve hoo.**

Hu is within, Hu is outside, Hu pervades everything; Where then is Bahu to find Hu?
He has wounded his own heart, He has tortured his own soul.
With austerities of all manner, With worship of all kinds,
Having read millions of books. He has also come to be called 'wise',
But the name 'faqir' befits only him, O Bahu, Whose very grave breathes life!



اندر کلمہ قل قل کردا ، عشق سکھایا کلمہ ہو
چوداں طبق کلمے دے اندر ، چھڈ کتاباں علماں ہو
کانے کپ کے قلم بناون ، لکھ نہ سکن کلمہ ہو
کلمہ مینوں پیر پڑھایا ، ذرا نہ رہیاں الماں ہو

**Andar kalmaa kul kul kardaa, Ishq sikhaaiaa kalmaa hoo.
Chaudaan tabaqe kalmen dy andar, Chhad kitaabaan ilmaan hoo.
Kaanne kapp ke qalam banaavan, Likh na sakkan qalmaan hoo.
Kalmaa mainoon peer parhhaiaa, Zaraa na raheean almaan hoo.**

Within me resounds the melody of Kalma, The melody that love has taught me to hear.
Why don't you put away your books, And forget that you have learnt from them –
For within the Kalma you will find The fourteen inner realms.
Scholars sharpen reeds into pens, But they are not capable of writing the true Kalma.
This Kalma has rid me of all afflictions Of the body and mind –
Only a Master could have taught it to me, O Bahu.

اندر ہو تے باہر ہو، دم ہو دے نال جلیندا ہو
ہو دا داغ محبت والا، ہر دم پیا سڑیندا ہو
جتھے ہو کرے رشنائی چھوڑ اندھیرا ویندا ہو
دوہیں جہان غلام اُس باہو، جو ہو سہی کریندا ہو

**Andar Hoo te baahir Hoo, dam Hoo naal jalendaa hoo.
Hoo daa daagh muhabbat waalaa, Hardam pias sarhendaa hoo.
Jitthe Hoo kare rushnaaee, Chhorh andheraa vaindaa hoo.
Dohee jahaan ghulaam us Baahoo, Jo Hoo sahee karendaa hoo.**

Hu is within, Hu is without,
Hu always reverberates in my heart.
The wound in my heart aches constantly,
With the unabating pain of Hu's love.
The darkness of ignorance departs,
From the heart lit by Hu.
Both worlds are slave to the one,
O Bahu, Who has realized the significance of Hu.



ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو
ایمان منگن شرماون عشقوں، دل نوں غیرت آئی ہو
جس منزل تے عشق پُچھاوے، ایمان خبر نہ کوئی ہو
عشق سلامت رکھیں باہو، دیاں ایمان دھروہی ہو

**Imaan salaamat har koee mange, Ishq salaamat koee hoo.
Imaan mangan sharmaavan ishqon, Dil noo ghairat aae hoo.
Jis manzil non ishq puchaave, Imaan khabar na koee hoo.
Ishq salaamat rakkheen Bahoo, Diaan imaan dharoee hoo.**

Believers pray to God for the protection of faith, But few pray for the gift of his love.
I am ashamed at what they ask for, Even more at what they are willing to yield.
Religion is quite unaware of the spiritual plane, To which love can raise us.
O Lord, keep my love for you ever fresh, Says Bahu: I shall mortgage my religion for it.

ایہ تن رب سچے دا حجرا، وچ پا فقیرا جھاتی ہو
نہ کر منت خواج خضر دی، تن اندر آب حیاتی ہو
شوق دا دیوا بال انہیرے، مت لبھی وست کھڑاتی ہو
مرن تھیں اگے مر رہے باہو، جنہاں حق دی رمز پچھاتی ہو

**Eh tan Rabb sachche daa hujraa, Wich paa faqeraa jhaatee hoo.
Naa kar minnat khwaaj khizr dee, Tain andar aab hayaatee hoo.
Shauq daa deevaa baal hanere, Mat labbhee vast kharaatee hoo.
Marn theen agge mar rahe bahoo, Jinhaan Haqq dee ramz pachhaatee hoo.**

This body is the temple of the true Lord; Peep within it, hermit!
You need no help from Khwaja Khizr: * The water of life is already within you.
Light the lamp of love in your heart,
To dispel the darkness within And discover the long-lost treasure.
Those who realize the secret of God, Die before death [and find everlasting life].



ايہ تن رب سچے دا حجرا ، کھڑيا باغ بہاراں ہو
 وچے کوزے وچے مُصلے ، وچ سجدے دیاں تھاراں ہو
 وچے کعبہ وچے قبلہ ، الا اللہ پکاراں ہو
 کامل مرشد مليا بابو ، آپے ليسي ساراں ہو

**Eh tan Rabb sachche daa hujraa, Khirheean baagh bahaaraan hoo.
 Wichche kooze, wich musalle, Wich sajde diaan thaaraan hoo.
 Wichche kaabaa wichche qiblaah, Il-lillaah pukaaraan hoo.
 Kaamil murshid miliaa Baahoo, Aape laisee saaraan hoo.**

This body is a temple of the true Lord,
 In which fragrant gardens abound With eternally fresh blossoms.
 Inside are the prayer mats, the places for prostration,
 And the means for ritual ablution.
 Inside is the Ka'ba and the Qibla,
 And here I cry out to Allah, the one without parallel.
 O Bahu, I have found the perfect Master,
 Who will guide and protect me within

ايہہ تن میرا چشماں ہووے ، مرشد ویکھ نہ رجاں ہو
 لوں لوں دے مڈھ لکھ لکھ چشماں ، ہک کھولاں ہک کجاں ہو
 اتناں ڈٹھیاں صبر نہ آوے ، ہور کھتے ول بجھاں ہو
 مرشد دا دیدار ہے بابو ، لکھ کروڑاں حجاں ہو

**Eh tan meraa chashmaan hove, Murshid wekh na rajjaan hoo.
 Loon loon de mudh lakh lakh chashmaan, Ik kholaan ik kajjaan hoo.
 Itniaan dithiaan sabar naa aave, Hor khite val bhajjaan hoo.
 Murshid daa deedaar hai Baahoo, Lakh karorhaan hajjaan hoo.**

Were my whole body festooned with eyes,
 I would gaze at my Master with untiring zeal.
 O, how I wish that every pore of my body, Would turn into a million eyes –
 Then, as some closed to blink, others would open to see!
 But even then my thirst to see him, Might remain unquestioned. What else am I to do?
 To me, O Bahu, a glimpse of my Master,
 Is worth millions of pilgrimages to the holy Ka'ba!

